

Q. 7. Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expression. (10)

اپنے پوشیدہ عیبوں کو معلوم کرنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے دشمن ہم کو کیا کہتے ہیں۔ ہمارے دوست اکثر ہمارے دل کے موافق ہماری تعریف کرتے ہیں۔ اول ہمارے عیب ان کو عیب ہی نہیں لگتے یا پھر ہماری خاطر کو ایسا عزیز رکھتے ہیں کہ اس کو رنجیدہ نہ کرنے کے خیال سے ان کو چھپاتے ہیں۔ یا پھر ان سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ ہر خلاف اس کے ہمارا دشمن ہم کو خوب ٹٹولتا ہے اور کونے کونے سے ڈھونڈ کر ہمارے عیب نکالتا ہے، گو وہ دشمنی سے چھوٹی بات کو بڑا بنا دیتا ہے۔ مگر اس میں کچھ نہ کچھ اصلیت ہوتی ہے دوست ہمیشہ اپنے دوست کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور دشمن عیبوں کو۔ اس لیے ہمیں اپنے دشمن کا زیادہ احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں ہمارے عیبوں سے مطلع کرتا ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو دشمن دوست سے بہتر ثابت ہوتا ہے۔

CSS-2017

Translation

Q: Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expression. (10)

Translation:

In order to discover one's hidden flaws, it is important to find out how our enemies perceive us. Our friends, most of the time, praise us. Firstly, our flaws do not appear to be flaws to them or they somehow hide them for our sake. The fear of upsetting us stops/keeps them from revealing our flaws. On the other hand, our enemy looks for our flaws in every nook and corner and highlights them. Hence, due to enmity, he ends up making a mountain out of nothing, nonetheless,

there is still a gain
of truth in it. A friend
always exaggerates friend's
good deeds while an
enemy exaggerates one's
weakness. That is why we
should be grateful to
our enemy that he lets
us know our flaws. In
this context, an enemy
proves to be better than
a friend.

Good attempt.

6/10